

Healthy smiles Ontario

17 سال اور اُس سے کم عمر مستحق بچوں کے لئے دندان کا ایک بلا معاوضہ پروگرام۔

اونٹاریو کی صحتمندانہ مسکراہٹیں

(Healthy Smiles Ontario) کیا ہے ؟

اونٹاریو کی صحتمندانہ مسکراہٹیں (Healthy Smiles Ontario)، 17 سال اور اُس سے کم عمر بچوں، جن کو کسی قسم کے دندان کے علاج کی سہولت نہیں ہے، اُن کے لئے ایک نیا پروگرام ہے۔ اگر مستحق ہوئے تو آپ کے بچے دندان کی بلا معاوضہ باقاعدہ خدمات حاصل کریں گے۔

کون مستحق ہے ؟

17 سال اور اُس سے کم عمر بچے مستحق ہو سکتے ہیں اگر :

- وہ اونٹاریو کے رہنے والے ہیں
- وہ ایسے گھرانے کے رکن ہیں جن کی استوار شدہ خالص سالانہ خاندانی آمدن 20,000 ڈالر یا اُس سے کم ہے، اور
- انہیں کسی بھی قسم کی دندان کے علاج کی سہولت نہیں ہے - (مع اُن حکومت کے امدادی پروگراموں کے جیسے اونٹاریو ورکس)۔

اونٹاریو کی صحتمندانہ مسکراہٹوں (Healthy Smiles Ontario) کے لئے مستحق ہونے کے لوازمات اور کاغذات کی فراہمی کے بارے میں مزید جاننے کے لئے تاکہ استحقاق کی تصدیق ہو سکے،

سروس اونٹاریو کی انفو لائن ٹول فری نمبر 1-866-532-3161 (ٹی ٹی وائی ٹول فری نمبر 1-800-387-5559)، پر کال کریں، یا اپنے مقامی صحت کے یونٹ سے رابطہ کریں۔ مقامی صحت کے یونٹوں کی فہرست آپ کو اس سائٹ پر ontario.ca/healthysmiles مل سکتی ہے۔

میں کیسے درخواست کروں ؟

اس بارے میں درخواست دینے کے لئے آپ کو اپنے مقامی صحت کے یونٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے مقامی صحت کا یونٹ آپ کو درخواست کے طریقہ کار میں بھی مدد کرے گا، جن میں درخواست فارموں کو مکمل کرنا اور مطلوبہ دستاویزات کو ظاہر کرنا بھی شامل ہے۔

کون سی خدمات شامل ہیں ؟

• دندان کی خدمات فراہم کرنے والے لائسنس یافتہ کے ہاں باقاعدہ ملاقاتیں، جیسے کہ ماہر دندان یا ماہر حفظان صحت دندان

- صفائی
- خول بھرنا
- ایکس ریز
- دانتوں پر جمی کالی تھیں اُتارنا
- اور مزید کچھ

کونسی خدمات اس میں شامل نہیں ہیں ؟

- کاسمیٹک دندان کی خدمات، جیسے کہ دانتوں کو سفید کرنا
- دانتوں اور جیڑوں کی خرابیوں کا علاج، جیسے کہ تاروں کے سہارے وغیرہ لگانا
- ہنگامی سطحی صحت کی نگہداشت

اگر ایسا بچہ جو 17 سال یا کم عمر کا ہے اور اُسے کوئی فوری یا ہنگامی سطحی صحت کا معاملہ پیش آجاتا ہے تو بچوں کے علاج کی ضرورت کے پروگرام (CINOT) کے تحت اُسے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ مزید جاننے کے لئے برائے مہربانی اپنے مقامی صحت کے یونٹ یا اس سائٹ پر ontario.ca/cinot جانیں۔

اونٹاریو کی صحتمندانہ مسکراہٹوں

(Healthy Smiles Ontario) کے پروگرام کا حصہ ہونے

پر میرا بچہ دندان کی حفاظت کے لئے کہاں رسائی

حاصل کر سکتا ہے ؟

ایک مرتبہ جب درخواست کا طریقہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کا مقامی صحت کا یونٹ آپ کی کمیونٹی میں دندان کے پسندیدہ اختیارات کی موجودگی کے بارے میں آپ کو مطلع کرے گا۔ آپ کی رہائش کے مطابق، اس میں ایسے نجی دندان کی خدمات مہیا کرنے والے سرگرم عمل اور/یا پبلک ہیلتھ یونٹ یا کمیونٹی ہسپتال دندان شامل ہیں۔

کیا میرا بچہ میرے اپنے ماہر دندان کو علاج کے لئے

دیکھ سکتا ہے ؟

اگر آپ کا ماہر دندان، اونٹاریو کی صحتمندانہ مسکراہٹوں (Healthy Smiles Ontario) کے پروگرام میں شامل ہوتا/ہوتی ہے تو آپ کا بچہ آپ کے ہی ماہر دندان کو دانتوں کے سلسلے میں دیکھنا جاری رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کا ماہر دندان پروگرام میں شامل نہیں ہے تو آپ اپنے علاقے کے ایک آزاد ماہر دندان یا دندان کے حفظان صحت کے ماہر سے، اگر وہ پروگرام میں شامل ہو تو، رابطہ کر سکتے ہیں۔